

فیر فیکس کاؤنٹی پبلک اسکولز اگست 2024 ء



طالبعلم کے حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق ایلیمنٹری
طلبا و طالبات کیلئے فوری رہنمائی

چیف ایکوئٹی آفس
ایکوئٹی اینڈ اسٹوڈنٹ کنڈکٹ

اسکول اکٹھے کام کرنے اور سیکھنے والے افراد کی کمیونٹی ہے۔ ہر کسی کے ساتھ احترام اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیئے۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی خطرہ دیکھنے کی صورت میں مدد حاصل کرنی چاہیئے۔ ایک مضبوط، خوشگوار اور تخلیقی اسکول کمیونٹی تشکیل دینے میں درکار اہم باتوں کو یاد رکھنے کے حوالے سے، یہ کتابچہ آپ کی مدد کرے گا۔

یہ فوری رہنمائی طلباء کیلئے، ایک مختصر جائزے کے طور پر استعمال کیلئے ہے۔ تمام طلباء کا طرز عمل www.fcps.edu/srr میں موجود ریگولیشن 2601 کے حالیہ نسخہ میں بیان کردہ تفصیلی معلومات کے مطابق ہوگا۔

ذمہ داریاں	حقوق
<p>آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ہم جماعتوں، اساتذہ، اور اپنے اسکول کے عملے کے ساتھ مل کر خیال رکھنے والا علمی ماحول پیدا کریں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> اس بارے میں سوچئیئے کہ آپ کے کام اور رویے دوسروں کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ ہر روز اسکول آئیے (جب تک کہ بیمار نہ ہوں)۔ اسکول وقت پر آئیے۔ اساتذہ اور ایک دوسرے کو بغور سنیئے۔ ہدایات پر عمل کیجیئے۔ اپنا کام وقت پر مکمل کیجیئے۔ ریگولیشن 2613 کے مطابق اسکول کے لیے مناسب لباس پہنیئے۔ 	<p>آپ کو سیکھنے کا حق ہے۔</p>
<p>اپنے اسکول کو محفوظ رکھنے میں معاونت آپ کی ذمہ داری ہے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> اپنے ہاتھوں اور پیروں کو اپنے قابو میں رکھیئے۔ نہ کبھی کسی کو ماریے یا نہ ہی ایسے انداز میں چھوئیے جو انہیں بے چین کر دے۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اسکول میں کوئی ایسی چیز نہ لائیے جس سے کسی کو تکلیف ہو، جیسے ماچس، لائٹر، منشیات، تمباکو، شراب، بندوق، چاقو، یا پٹاخے۔ 	<p>آپ کو حق ہے کہ آپ کو اسکول میں اور اسکول کی عمارت کے اندر تحفظ کا احساس ہو۔</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● اگر آپ کو کوئی خطرناک چیز نظر آئے تو فوراً کسی ٹیچر یا قابل اعتماد بالغ شخص کو بتائیے۔ ● تنازعات کو پُر امن طریقے سے حل کیجیئے۔ ● اگر سماجی، جذباتی، یا طرز عمل میں مدد کی ضرورت ہو تو اپنی اور/یا دوسروں کی وکالت کیجیئے۔ 	
<p>آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اسکول کی کمیونٹی میں ہر ایک فرد کے ساتھ ساتھ اسکول کمیونٹی کی تمام املاک کی رازداری کا احترام کریں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> ● کسی بھی وجہ سے رازداری کی درخواست کرنے والے دوسروں کے حقوق کا احترام کیجیئے۔ ● اگر آپ کو اسکول میں دوا لینے کی ضرورت ہے، تو ایک بالغ شخص کو آپ کے لیے اسے اسکول لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اسکول میں دوا نہیں لانی چاہیے۔ دوا کو ہیلتھ روم میں لانا یقینی بنائیے تاکہ اسکول اس بات کو یقینی بنا سکے کہ آپ کو ضرورت پڑنے پر دوا مل جائے اور وہ یہ بھی یقینی بنا سکے کہ آپ دوائی کی صحیح مقدار لے رہے ہیں۔ 	<p>آپ کو بین السطور وجوہات سے قطع نظر، رازداری اور رسوائی کے بغیر سہولیات حاصل کرنے کا حق ہے۔</p>
<p>آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اسکول کی کمیونٹی میں ہر ایک کا احترام کریں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ہر ایک کی ثقافت، مذہب، نسل، اور صنفی شناخت کا احترام کیجیئے۔ ● جب کوئی اپنے خیالات یا احساسات کا اشتراک کر رہا ہو تو اسے بغیر کسی رکاوٹ کے بات ختم کرنے کی اجازت دیجیئے اور ایک قابل احترام سامع بنیئے۔ ● مذہب زبان استعمال کیجیئے؛ دوسروں کو لعنت ملامت یا ایسی بات نہ کہیئے جو لوگوں کو ایذا پہنچائے۔ ● شائستہ اور ایماندار بنیئے۔ ● اپنا کام خود کیجیئے؛ کہیں اور سے کام نقل نہ کیجئے۔ ● دوسروں سے منصفانہ سلوک کیجیئے۔ ● اپنی باری لیجیئے۔ ● جب کوئی قابل اعتماد بالغ آپ سے اسکول میں بات کرتا ہے تو دھیان دیجیئے اور بغور سنیئے۔ 	<p>آپ کو اسکول میں، کلاس روم میں، اسکول بس میں، اور اسکول کے ٹریس میں عزت محسوس کرنے اور عزت کے ساتھ پیش آنے کا حق ہے۔</p> <p>اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اسکول میں یا اسکول کی تقریبات کے دوران آپ کا کسی بھی طرح سے احترام نہیں کیا گیا، تو آپ کو اسکول میں کسی قابل اعتماد بالغ (یعنی، پرنسپل، کونسلر، استاد وغیرہ) سے ملنے کا حق ہے۔</p>

<p>آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسکول کے آلات اور املاک کو اسکول کے قواعد و ضوابط کے مطابق استعمال کریں۔ اسکول کی تمام املاک کا خیال رکھیے اور احترام کے ساتھ پیش آئیے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> • اگر آپ سے اسکول کا کوئی ایکویپمنٹ حادثاتی طور پر ٹوٹ جائے، تو استاد کو مطلع کیجیے اور دونوں مل کر اسے ٹھیک کرنے یا تبدیل کرنے کا راستہ نکالیے۔ • اسکول کے تمام اثاثوں کا احترام کیجیے جیسے لیپ ٹاپ یا ٹیبلیٹ اور انہیں درست انداز میں استعمال کیجیے۔ ایسی ویب سائٹس تک رسائی نہ حاصل کریں جو آپ کے استاد سے منظور شدہ نہیں ہیں۔ • ایک اچھے ڈیجیٹل شہری بنیے اور تمام الیکٹرانک آلات کو ذمہ داری سے استعمال کیجیے۔ • آپ اسکول میں ذاتی الیکٹرانک ڈیوائس لا سکتے ہیں، جیسے کہ سیل فون، کمپیوٹر، ٹیبلیٹ وغیرہ؛ تاہم، یہ اشیاء صرف اسکول اوقات سے پہلے یا بعد میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ انہیں اسکول لاتے ہیں تو ان اشیاء کو دن کے وقت اپنے بستے یا بیگ میں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اسکول میں رہتے ہوئے آپ کے ذاتی آلات میں سے کسی کو کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہ گم ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسکول اس چیز کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، لہذا بہتر ہوگا کہ ان آلات کو گھر پر چھوڑ دیا جائے۔ 	<p>آپ کو اسکول کی سہولیات اور آلات استعمال کرنے کا حق ہے۔</p>
<p>آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام طلباء و طالبات کی رازداری کا احترام کریں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> • ایسے ہر اس شخص کا احترام کیجیے جسے ریگولیشن 2603 میں بیان کردہ وجوہات کی بنا پر بیت الخلاء تک رسائی کی ضرورت یا خواہش ہو۔ 	<p>آپ کو، ریگولیشن 2603 کے مطابق، اسکول ڈویژن کی تمام سہولیات اور سرگرمیوں تک محفوظ اور مساوی رسائی کو یقینی بنانے کیلئے، معاونت حاصل کرنے کا حق ہے۔</p>
<p>آپ کی ذمہ داری ہے کہ طلباء اور عملے کی مدد کیجیے کیونکہ ہم منصفانہ تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> • دوستانہ اور خوش گوار ہو کر عملے کو سب کی شمولیت کا ماحول قائم کرنے میں مدد کیجیے۔ • ہم جماعتوں کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ وہ کلاس روم میں سیکھنے کے عمل میں اور اسکول کے بعد کی سرگرمیوں میں شامل ہوں۔ 	<p>آپ کو تعلیمی ماحول، درسی مواد، اور غیر نصابی سرگرمیوں تک منصفانہ رسائی کا حق ہے۔</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● اختلافات اور مشترکات کا احترام کیجئے۔ 	
<p>آپ کی ذمہ داری ہے کہ طلباء اور عملے کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> ● براہ مہربانی دوسروں کو ان کے منتخب کردہ ناموں سے پکاریئے اور ان کے منتخب اسمائے ضمیر استعمال کیجئے۔ ● طلباء کو تمام طلباوطالبات پر مشتمل ہونا چاہئے اور ایک دوسرے کا خیرمقدم کرنا چاہئے۔ 	<p>آپ کو ایسے اسکول اور کلاس روم کے ماحول کا حق ہے، جہاں تمام طالب علموں کی شناخت کی توثیق کی گئی ہو اور جو ہمدرد، خیال رکھنے والا، اور شمولیت والا ہو۔</p>
<p>آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اسکول کی کمیونٹی میں ہر ایک کی رازداری کا احترام کریں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> ● کسی بھی وجہ سے رازداری کی درخواست کرنے والے دوسروں کے حقوق کا احترام کیجئے جب تک کہ کوئی سلامتی کا مسئلہ نہ ہو۔ 	<p>آپ کو حق ہے کہ آپ کی ذاتی شناخت کی معلومات یا شہریت یا ترک وطن کی حیثیت کو غیر مجاز شیئرنگ سے محفوظ رکھا جائے۔</p>

اہم موضوعات

لباس کے قواعد:

آپ کا اسکول آپ کے لباس کے ذریعے اپنی عکاسی کرنے کے آپ کے حق کا احترام کرتا ہے۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے کپڑے آپ کے اسکول کے دن کے لیے موزوں ہونے چاہئیں۔ مثال کے طور پر، جن دنوں آپ کی PE ہے، آپ کو آرام دہ کپڑے پہننے چاہئیں جن میں آپ ورزش کر سکیں۔ ایک اور مثال یہ ہوگی کہ آؤٹ ڈور آدھی چھٹی والے دنوں میں آپ آرام دہ جوتے پہننے ہیں جس میں آپ بھاگ دوڑ اور کھیل سکتے ہیں۔

ہر روز اپنے کپڑوں کا انتخاب کرتے وقت، اپنے ہم جماعتوں اور دوسرے طلباء کا احترام کرتے ہوئے ایسے کپڑے پہننے کا انتخاب کیجئے جن پر الفاظ یا تصویریں نہ ہوں جو توہین آمیز یا بیہودہ ہوں، یا ایسی چیزوں کا پرچار کریں جن کی اسکول میں اجازت نہیں ہے، جیسے منشیات، اسلحہ، اور شراب۔

اسکول میں حاضری:

آپ کی اسکول میں حاضری، آپ کی تعلیمی کامیابی کے لیے بہت اہم ہے۔ "دائمی طور پر غیر حاضر" ہونے کا مطلب ہے کہ ایک طالبعلم سال بھر میں 18 یا اس سے زیادہ اسکول کے دن غیر حاضر رہا ہے (بشمول بیماری، خاندانی ہنگامی صورتحال، معطلی، یا بلاعذر غیرحاضری)۔

- مطالعہ میں یہ بات آئی ہے کہ ایلیمنٹری اسکول میں باقاعدہ حاضری سے اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ طالبعلم گریڈ لیول کے مطابق پڑھیں گے۔
- مطالعہ میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو طالبعلم باقاعدگی سے اسکول حاضر ہوتے ہیں، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بروقت ہائی اسکول سے گریجویشن کریں گے۔

والدین یا سرپرستوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کے حاضری کے ریکارڈ کے بارے میں فکر مند ہیں تو اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں۔

بس اسٹاپ پر / بس پر / فیلڈ ٹریس پر:

انہی قواعد و ضوابط کا خیال رکھئے جن پر آپ اسکول میں عمل کرتے ہیں اور محفوظ رہنے پر خصوصی توجہ دیجیئے۔

- بس اسٹاپ پر:
 - اپنے گروپ کے ساتھ بیٹے۔
 - سائڈ واک یا گھاس والی جگہ پر کھڑے ہوں، اسٹریٹ میں مت کھڑے ہوں۔
- بس میں:
 - اپنے ہاتھوں کو بس کے اندر رکھیئے۔
 - اپنی نشست پر تشریف رکھیئے۔
 - دھیمی آواز میں بات کیجیئے۔
- فیلڈ ٹریس پر کوئی خطرناک چیز مت لائیئے۔ مثال کے طور پر، ماچس، لائیٹر، تمباکو، شراب، منشیات، یا ہتھیار مت لائیئے۔

اسکول کی محفوظ کمیونٹیوں کی اعانت:

تمام طالب علموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ صحت مند اور محفوظ اسکول کمیونٹیز کی تشکیل اور فروغ میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگر آپ ضرورساں یا غیر محفوظ طرز عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ جتنا جلد ہوسکے عملے سے یا کسی قابل بھروسہ بالغ فرد سے رابطہ کر کے اپنی تشویش سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو ایسے طرز عمل میں شریک نہیں ہونا چاہیئے جو ضرورساں یا غیر محفوظ صورت حال کو مزید خراب کر دے۔ اس قسم کے رویوں کی مثالوں میں غنڈہ گردی کے طرز عمل پر اُکسانا اور لڑائی جھگڑے یا توتکار کی وڈیو بنانا شامل ہیں۔

غنڈہ گردی، ہراساں کرنا، اور دوسروں سے بُرا برتاؤ:

کبھی کسی کو تنگ یا اس کے ساتھ کوئی غنڈہ گردی مت کیجیئے صرف اس لیے، کہ وہ آپ سے مختلف ہے، آپ کو اس پر غصہ ہے یا آپ اسے اُکسانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو نقصان پہنچانے، انہیں خوف زدہ کرنے یا ان کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔

براہ مہربانی یاد رکھیئے کہ ہمارے اسکول میں تمام لوگ مختلف ہیں۔ وہ کئی دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اور کئی زبانیں بولتے ہیں۔ ان کی جسامت، شکل اور رنگ مختلف ہیں۔ ان کے مذاہب مختلف ہیں اور وہ مختلف پس منظر کے حامل گھرانوں سے آتے ہیں۔

اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو تنگ کیا جا رہا ہے یا کسی کے ساتھ غنڈہ گردی ہو رہی ہے، چاہے ذاتی طور پر یا آن لائن، کچھ کہیئے۔ غنڈہ گردی کرنے والے شخص کو منع کیجیئے۔ جس فرد کے ساتھ غنڈہ گردی کی جا رہی ہے اسے بتائیے کہ آپ اس کے دوست بن سکتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہیئے۔ کسی قابل اعتماد بالغ شخص کو بتائیے اگر یہ صورتحال نہیں رکتی۔

اگر کوئی آپ کے ساتھ غنڈہ گردی کرے، تو اسے ایسا کرنے سے روکیئے۔ اگر وہ باز نہ آئے، تو وہ جگہ چھوڑ دیجیئے۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے، تو فوراً کسی قابل بھروسہ بالغ فرد کو مطلع کیجیئے۔

امتیازی سلوک اور خوف و ہراساں کی اطلاع دینے کا طریقہ کار

ایک Discrimination & Harassment Reporting نظام وضع کیا گیا ہے تاکہ آپ اور آپ کے گھر والے ایسے واقعات رپورٹ کرسکیں جن میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو تعصب اور/یا امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ٹول Let's Talk پلیٹ فارم میں رکھا گیا ہے اور اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے (a) اسٹوڈنٹ ڈیسک ٹاپ سے ایپلیکیشن لانچ کر کے؛ یا (b) یہ [link on the FCPS Website](#)۔

یہ فوری رہنمائی طلباء کیلئے ، ایک مختصر جائزے کے طور پر استعمال کیلئے ہے ۔ تمام طلباء کا طرز عمل www.fcps.edu/srr میں موجود ریگولیشن 2601 کے حالیہ نسخہ میں بیان کردہ تفصیلی معلومات کے مطابق ہوگا ۔



(Arabic) Please review the Student Rights and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and return page 3 of the SR&R booklet to your child's school by September 30, 2024. You may request a printed copy of the SR&R from the front office of your child's school at any time.

(Chinese) Please review the Student Rights and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and return page 3 of the SR&R booklet to your child's school by September 30, 2024. You may request a printed copy of the SR&R from the front office of your child's school at any time.

(Farsi) Please review the Student Rights and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and return page 3 of the SR&R booklet to your child's school by September 30, 2024. You may request a printed copy of the SR&R from the front office of your child's school at any time.

(Korean) Please review the Student Rights and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and return page 3 of the SR&R booklet to your child's school by September 30, 2024. You may request a printed copy of the SR&R from the front office of your child's school at any time.

(Spanish) Please review the Student Rights and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and return page 3 of the SR&R booklet to your child's school by September 30, 2024. You may request a printed copy of the SR&R from the front office of your child's school at any time.

(اردو) براہ مہربانی طالب علم کے حقوق اور ذمہ داریاں www.fcps.edu/srr کا جائزہ لیجیئے ، اور SR&R booklet کے صفحہ 3 پر دستخط کر کے اپنے بچے کے اسکول 30 ستمبر ، 2024ء تک واپس بھیجیئے ۔ آپ کسی بھی وقت SR&R کی ایک طباعت شدہ نقل کی درخواست اپنے بچے کے اسکول کے استقبالیہ دفتر سے کرسکتے ہیں ۔

(Vietnamese) Please review the Student Rights and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and return page 3 of the SR&R booklet to your child's school by September 30, 2024. You may request a printed copy of the SR&R from the front office of your child's school at any time.